

EN Start Here

PT Começar por aqui


FR Démarez ici

LV Sāciet šeit




© 2019 Seiko Epson Corporation  
Printed in XXXXXX


Illustrations of the printer used in this manual are examples only.  
Les illustrations de l'imprimante utilisées dans ce manuel sont des exemples.  
As ilustrações da impressora utilizadas neste manual são meramente exemplificativas.  
Šajā rokasgrāmatā izmantotās printera ilustrācijas ir tikai piemēri.



Contents may vary by location.  
Le contenu peut varier en fonction du pays où vous vous trouvez.  
O conteúdo pode variar dependendo da localização.  
Saturš var būt atšķirīgs atkarībā no valsts.




Do not connect a USB cable unless instructed to do so.  
Ne connectez pas de câble USB sauf si cela vous est demandé.  
Não ligue um cabo USB salvo indicado em contrário.  
USB kabeli pievienojiet tikai tad, ja to paredz norādes.




1 Remove all protective materials.  
Retirez tous les emballages de protection.  
Remova todos os materiais de proteção.  
Noņemiet visus aizsargmateriālus.


Do not dispose. Attach them when transporting.  
Ne pas jeter. Les fixer lors du transport.  
Não eliminar. Afixar ao transportar.  
Neizmetiet. Piestipriniet tos transportēšanas laikā.




2 Insert the output tray.  
Insérez le bac de sortie.  
Insira o tabuleiro de saída.  
Ievietojiet izvades paliktni.



3 Place the output tray.  
Placez le bac de sortie.  
Coloque o tabuleiro de saída.  
Uzlieciet izvades paliktni.




4 Connect and plug in.  
Connexion et branchement.  
Conectar e ligar.  
Pievienojiet un pieslēdziet elektrībai.




5 Turn on.  
Mise sous tension.  
Ligar.  
Ieslēdziet.





6 Select a language and time.  
Sélectionnez une langue et une heure.  
Selecione o idioma e a hora.  
Atlasiet valodu un laiku.



7 Open.  
Ouverture.  
Abrir.  
Atveriet.



8 Press the ink supply unit tray, and then pull it out.  
Appuyez sur le bac de l'unité d'alimentation encre, puis retirez-le.  
Pressione a unidade de alimentação de tinta e retire-a.  
Nospiediet tintes padeves bloka paliktni un pēc tam izvelciet to laukā.




9 Shake the ink supply unit 10 times well.  
Secouez bien l'unité d'alimentation encre 10 fois.  
Agite a unidade de alimentação de tinta 10 vezes.  
Kārtīgi 10 reizes sakratiet tintes padeves bloku.


For the initial setup, make sure you use the ink supply unit that came with this printer. This ink supply unit cannot be saved for later use. The initial ink supply unit will be partly used to charge the print head. This ink supply unit may print fewer pages compared to subsequent ink supply unit.

Pour la première installation, assurez-vous d'utiliser l'unité d'alimentation encre fournie avec cette imprimante. Cette unité d'alimentation encre ne peut pas être conservée pour une utilisation future. L'unité d'alimentation encre initiale sera aussi utilisée partiellement pour charger la tête d'impression. Cette unité d'alimentation encre peut imprimer moins de pages que la prochaine unité d'alimentation encre.


Na configuração inicial, certifique-se de que utiliza a unidade de alimentação de tinta fornecida com esta impressora. Esta unidade de alimentação de tinta não poderá ser guardada para utilização futura. A unidade de alimentação de tinta inicial será parcialmente utilizada para carregar a cabeça de impressão. Esta unidade de alimentação de tinta pode imprimir menos páginas comparativamente com uma unidade de alimentação de tinta subsequente. Sākotnējai iestādīšanai noteikti lietojiet tintes padeves bloku, kas piegādāts kopā ar printeri. Šo tintes padeves bloku nevar saglabāt lietošanai vēlāk. Sākotnējais tintes padeves bloks tiks daļēji izlietots drukas galviņas uzpildei. Ar šo tintes padeves bloku var izdrukāt mazāku lapu skaitu nekā ar vēlāk izmantojamu tintes padeves bloku.




10 Unpack.  
Déballez.  
Retire da embalagem.  
Izsaņojiet.




11 Fit the ink supply unit into the ink supply unit tray.  
Installez l'unité d'alimentation encre dans le bac de l'unité d'alimentation encre.  
Encaixe a unidade de alimentação de tinta no tabuleiro da unidade de alimentação de tinta.  
Ietilpiniet tintes padeves bloku tintes padeves bloka paliktnī.




12 Insert and close.  
Insérez et fermez.  
Insira e feche.  
Ievietojiet un aizveriet.




13 Wait until the charging is finished.  
Patientez jusqu'à la fin du chargement.  
Aguarde que o carregamento termine.  
Pagaidiet kamēr uzpilde ir beigusies.



14 Pull out.  
Retrait.  
Puxe.  
Izvelciet.



15 Pinch and slide the edge guides.  
Pincez et faites glisser les guides de bords.  
Aperte e enfie os guias de extremidades.  
Satveriet un bidiet malas vadotnes.




Load A4 size paper toward the back of the paper cassette with the printable side face down then slide the front edge guide to the paper.

Chargez du papier de taille A4 vers l'arrière du bac à papier, surface imprimable tournée vers le bas, puis faites glisser le guide de bord avant vers le papier.

Coloque papel A4 no sentido da parte posterior do alimentador de papel com o lado a imprimir voltado para baixo e ajuste o guia da extremidade frontal ao papel.

Papīra kasetes aizmugurējā daļā ievietojiet A4 izmēra papīru ar apdrukājamo pusi uz leju, pēc tam malas vadotni bidiet līdz papīram.





Do not load paper above the ▼ arrow mark inside the edge guide.

Ne chargez pas de papier au-dessus de la marque fléchée ▼ sur le bord du guide.

Não carregue papel acima da marca de seta ▼ no interior do guia das extremidades.

Neievietojiet papīru virs ▼ bultiņas atzīmes, kas redzama sānu vadotnes iekšpusē.



Check the paper size and paper type for the paper sources. Select **Done** if the settings are correct, or select the correct paper size and paper type. You can change these settings later.

Vérifiez le format et le type de papier pour les sources de papier. Sélectionnez **Fin** si les réglages sont corrects ou sélectionnez le bon format et le bon type de papier. Vous pourrez modifier ces réglages ultérieurement.

Verifique o tamanho e o tipo de papel para as origens do papel. Selecione **Concluído** se as definições estiverem correctas ou selecione o tamanho e o tipo de papel correctos. Pode alterar estas definições mais tarde.

Pārbaudiet papīra izmēru un papīra veidu papīra avotiem. Atlasiet **Gatavs**, ja iestatījumi ir pareizi, vai atlasiet pareizo papīra izmēru un papīra veidu. Šos iestatījumus vēlāk varat mainīt.

## 2

### Windows



Insert the CD and then select A. If you need to connect multiple computers as an administrator, select B and see the *Administrator's Guide* to set up the administrator's settings.

Insérez le CD puis sélectionnez A. Si vous devez connecter plusieurs ordinateurs en tant qu'administrateur, sélectionnez B et consultez le *Guide de l'administrateur* pour configurer les paramètres de l'administrateur.

Insira o CD e selecione A. Caso necessite de ligar vários computadores como administrador, selecione B e consulte o *Guia do Administrador* para configurar as definições de administrador.

Ievietojiet CD un pēc tam atlasiet A. Ja vēlaties izveidot savienojumu ar vairākiem datoriem kā administrators, atlasiet B un skatiet dokumentu *Administrators rokasgrāmata*, lai iestatītu administratora iestatījumus.

If the Firewall alert appears, allow access for Epson applications.

Si l'avertissement du pare-feu s'affiche, autorisez l'accès à toutes les applications d'Epson.

Caso seja apresentada a mensagem de alerta da Firewall, permita o acesso para aplicações Epson.

Ja parādās ugunsdrošības brīdinājums, atļaujiet piekļūt „Epson” lietojumprogrammām.

### No CD/DVD drive

#### Mac OS




Visit the website to start the setup process, install software, and configure network settings.

Visitez le site Web pour démarrer le processus de configuration, installer le logiciel et configurer les paramètres réseau.

Visite o Web site para iniciar o processo de configuração, instalar o software e configurar as definições de rede.

Lai sāktu iestatīšanu, instalētu programmatūru un konfigurētu tīkla iestatījumus, apmeklējiet tīmekļa vietni.

### iOS/Android



See the *User's Guide* for more information on printing from a smartphone or tablet.

Consultez le *Guide d'utilisation* pour obtenir plus d'informations sur l'impression depuis un smartphone ou une tablette.

Consulte o *Guia do Utilizador* para obter mais informações sobre a impressão a partir de um smartphone ou tablet.

Skatiet dokumentā *Lietotāja rokasgrāmata* papildinformāciju par drukāšanu no viedtālruna vai planšetdatora.

## Epson Connect



Using your mobile device, you can print from any location worldwide to your Epson Connect compatible printer. Visit the website for more information.

Avec votre appareil mobile, vous pouvez imprimer depuis n'importe où dans le monde sur votre imprimante compatible Epson Connect. Visitez le site Web pour plus d'informations.

Através do seu dispositivo móvel, pode imprimir a partir de qualquer local no mundo diretamente na sua impressora Epson Connect compatível. Visite o Web site para mais informações.

Ar mobilo ierīci un printeri, kas atbalsta „Epson Connect” pakalpojumu, drukāt iespējams, atrodoties jebkurā vietā pasaulē. Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet tīmekļa vietni.

## Questions?



You can open the PDF manuals from the shortcut icon, or download the latest versions from the following website. See the *User's Guide* to install the PS/PCL driver.

Vous pouvez ouvrir les manuels PDF depuis l'icône de raccourci, ou télécharger les dernières versions depuis le site Web suivant. Voir le *Guide d'utilisation* pour installer le pilote PS/PCL.

Pode abrir os manuais em PDF a partir do ícone de atalho ou transferir as versões mais recentes a partir do seguinte Web site.

Consulte o *Guia do Utilizador* para instalar o controlador PS/PCL.

Varat atvērt PDF rokasgrāmatas, atlasot īsinājumikonu, vai lejupielādēt jaunākās versijas no tālāk norādītās tīmekļa vietnes.

Lai instalētu PS/PCL draiveri, skatiet *Lietotāja rokasgrāmata*.

➔ <http://www.epson.eu/Support> (Europe)  
<http://support.epson.net> (outside Europe)

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.  
 Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
 Android™ is a trademark of Google Inc.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

для пользователей из России Срок службы: 3 года

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
 Tel: 81-266-52-3131  
 Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.



**LT** Pradėkite čia  
**ET** Alusta siit  
**AR** ابدأ من هنا


**SW** Anza Hapa  
**FA** از اینجا شروع کنید

Šiame vadove naudojamose spausdintuvo iliustracijose yra tik pavyzdiniai. Juhendis esitatud printeri joonised on illustreeriva tähendusega.

تستخدم الرسومات التوضيحية للطباعة الواردة في هذا الدليل على سبيل المثال فحسب.

Picha za kichapishi zinazotumika katika mwongozo huu ni za mfano tu.

تصاویر چاپگر استفاده شده در این دفترچه راهنما فقط برای مثال آورده شده اند.




Pakuotės turinys gali skirtis priklausomai nuo regiono. Sisu võib piirkonniti erineda.

قد تختلف المحتويات باختلاف المنطقة.

Maudhui yanaweza kutofautiana na eneo.

ممکن است محتویات برحسب مکان فرق کنند.




Jeji nenurodyta instrukcijose, nejunkite USB laido. Ārge ūhendage USB-kaablit enne, kui olete saanud sellekohase juhise.

لا تصل كبل USB إلا إذا طلب منك إجراء ذلك.

Usiunganishe kwenye kebo ya USB isipokuwa uelekezwe kufanya hivyo.

کابل USB را تا زمانی که از شما خواسته نشده است متصل نکنید.

**1**



Nuimkite visas apsaugines medžiagas. Eemaldage kõik kaitsematerjalid.

قم بإزالة جميع المواد الواقية.

Ondoa nyanzo zote za ulinzi.


همه مواد محافظ را بردارید.

Neišmesti. Pritvirtinti transportuojant. Hoida alles ja kinnitada vajadusel seadme transportimiseks.


لا تتخلص منها. استخدمها عند النقل.

Usizitupe. Zifunge wakati wa usafirishaji.

دور نیندازید. هنگام جابجایی آنها را وصل کنید.



**2**




Įkiškite išvesties dėklą. Lūkake väljastussalv sisse.

أدخل علبة إخراج الورق.

Ingiza trei ya zao.

سینی خروجی را وارد کنید.

**3**




Įdėkite išvesties dėklą. Pange väljastussalv kohale.

ضع علبة إخراج الورق.

Weka trei ya zao.

سینی خروجی را در جای خود بگذارید.

**4**




Prijunkite laidus ir įjunkite į maitinimą. Ūhendage ja lūlitage vooluvõrku.

قم بتوصيل الطابعة بالتيار الكهربائي.

Unganisha na uhomeke.

وصل کرده و به پریز بزنید.

**5**



Įjunkite. Lūlitage sisse.

قم بالتشغيل.

Washa.

روشن کنید.

**6**




Pasirinkite kalbą ir laiką. Valige keel ja kellaage.

اختر اللغة والوقت.

Chagua lugha na saa.

زبان و ساعت را انتخاب کنید.

**7**




Atidarykite. Avage.

افتح.

Fungua.

باز کنید.

**8**




Spauskite rašalo tiekimo talpyklą, tada ištraukite ją.

Vajutage tindivarustusseadme salvele ja tõmmake see välja.


اضغط على علبة وحدة تزويد الحبر واسحبها للخارج.

Bonyeza trei ya kitengo cha kutoa wino, na kisha uivute nje.

سینی توزیع کننده جوهر را فشار دهید و سپس بکشید تا بیرون بیاید.



**9**



10 kartų stipriai pakratykite rašalo tiekimo talpyklą.

Raputage tindivarustusseade 10 korda tugevasti läbi.

رج علبة وحدة تزويد الحبر عشر مرات جيداً.

Tikisa kitengo cha kutoa wino mara 10 vizuri.

توزیع کننده جوهر را 10 بار به خوبی تکان دهید.

Atlikdami pradinę sąranką, būtinai naudokite su šiuo spausdintuvu pateiktą rašalo tiekimo talpyklą. Šios rašalo tiekimo talpyklos negalima palikti vėlesniam panaudojimui. Pradinę į spausdintuvą įdėta rašalo tiekimo talpykla dalinai išnaudojama spausdinimo galvutei užpildyti rašalu ir paruošti darbui. Naudojant šią rašalo tiekimo talpyklą gali būti išspausdinta mažiau puslapių, palyginti su rašalo tiekimo talpykla, kuri bus naudojama vėliau.


Esmahäälustusel veenduge, et kasutusel on printeri komplektis olevad tindivarustusseadmed. Neid tindivarustusseadmeid ei saa hiljem edasi kasutada. Esmahäälustuse tindivarustusseadmeid kasutatakse osaliselt, et prindipea tindiga täita. Esmahäälustuse tindivarustusseadmetega saab printida vähem lehekülgi kui tavaliste tindivarustusseadmetega.

عند الإعداد الأولي، تأكد من استخدامك لوحدة تزويد الحبر المرفقة بهذه الطابعة. لا يمكن الاحتفاظ بوحدة تزويد الحبر هذه لاستخدامها لاحقاً. سيتم استخدام وحدة تزويد الحبر الأولية بشكل جزئي لشحن رأس الطابعة. قد تطبع وحدة تزويد الحبر هذه صفحات أقل مقارنةً بآلي وحدة تزويد حبر لاحقة.

Kwa usanidi wa kwanza, hakikisha umetumia kitengo cha kutoa wino ambacho kilikuja na kichapishi hiki. Kitengo hiki cha kutoa wino hakiwezi kuhifadhiwa ili kutumiwa baadaye. Kitengo cha kutoa wino kitatumika nusu ili kuchaji kichwa cha kuchapisha. Kitengo hiki cha kutoa wino kinaweza kuchapisha kurasa chache ikilinganishwa na kitengo kingine cha kutoa wino.

برای راه اندازی اولیه، حتماً از واحد منبع جوهر ارائه شده همراه با این چاپگر استفاده کنید. این واحد منبع های جوهر را نمی توانید برای استفاده های بعدی نگهداری کنید. واحد منبع های جوهر اولیه برای شارژ هد چاپ کمی مورد استفاده قرار می گیرند. این واحد منبع های جوهر ممکن است در مقایسه با واحد منبع های جوهر بعدی، تعداد کاغذهای کمتری را چاپ کنند.

**10**




Išpakuokite. Võtke pakendist välja.

أفرغ محتويات العلبة.

Pakua.

بسته بندی را باز کنید.

**11**



Įdėkite rašalo tiekimo talpyklą į rašalo tiekimo talpyklos dėklą.


Pange tindivarustusseade tindisalve sisse.

اضبط وضعية وحدة تزويد الحبر بحيث تلائم العلبة المخصصة لها.

Funga kitengo cha kutoa wino kwenye trei ya kitengo cha kutoa wino.

توزیع کننده جوهر را در سینی توزیع کننده جوهر بگذارید.

**12**



Įkiškite ir uždarykite. Lūkake sisse ja sulgege.

أدخل الوحدة ومن ثم أغلق.

Ingiza na ufunge.

وارد کنید و ببندید.

**13**



Palaukite, kol užpildymas bus baigtas.


Oodake veidi, kuni tindiga täitmine on lõppenud.

انتظر حتى ينتهي الشحن.

Subiri hadi imalize kuchaji.

منتظر بمانید تا شارژ تمام شود.

**14**




Ištraukite. Tõmmake välja.

اسحب.

Ondoa.

بیرون بکشید.

**15**




Suimkite ir stumkite kraštelio kreipiamašias. Pigistage ja lūkake piirijuhikuid.

اضغط على موجبات الحافة وحركها.

Chuna na utelezesho mwongozo wa pambizo.

راهنماهای لبه را فشار دهید و بلغزانید.






Dékite A4 formato popieriaus link popieriaus kasetės galo spausdinama puse žemyn, tada priekinę kraštelio kreipiamąją stumkite iki popieriaus.

Laadige A4-formaadis paber paberikaseti tagaosa suunas, nii et prinditav pool oleks all, ja lükake eesmine piirjuhik vastu paberit.



قم بتحميل ورق بحجم A4 نحو الجزء الخلفي لدرج الورق بحيث يكون الوجه القابل للطباعة مواجهًا لأسفل ثم حرك موجة الحافة الأمامية نحو الورق.

Pakia ukurasa wa ukubwa wa A4 kuelekea nyuma ya mkanda wa karatasi upande wa kuchapishwa ukiangalia chini kisha utelezeshwe mwongozo wa pambizo wa mbele kwenye karatasi.

کاغذ سائز A4 را به سمت پشت کاست کاغذ در دستگاه بگذارید در حالی که سمت قابل چاپ آن به سمت پایین باشد، سپس راهنمای لبه جویی را روی کاغذ بگذارید.



**Nedékite popieriaus už rodyklės ▼, esančios krašto kreiptuvo viduje.**  
**Ärge laadige paberit üle külgjuhiku sees oleva noolmärgi ▼.**  
 لا تُحمّل ورقًا أعلى علامة السهم ▼ داخل موجة الحافة.  
**Usipakie karatasi juu ya alama ya kishale cha ▼ ndani ya mwongozo wa pambizo.**  
 کاغذ را بالاتر از علامت ▼ در داخل راهنمای لبه قرار ندهید.



Patikrinkite popieriaus šaltinių popieriaus dydį ir popieriaus tipą. Palieskite **Atlikta**, jei parametrai yra tinkami, arba pasirinkite tinkamą popieriaus dydį ir popieriaus tipą. Vėliau šias nuostatas galėsite pakeisti.

Valige paberiallikate paberit formaat ja paberit tüüp. Kui paberit formaat on õige, valige **Valmis** või valige vastav paberit formaat ja paberit tüüp. Neid sätteid saab hiljem muuta.

تحقق من حجم الورق ونوعه لمصدر الورق. حدد "تم" إذا كانت الإعدادات صحيحة، أو حدد حجم الورق ونوعه الصحيحين. يمكنك تغيير هذه الإعدادات لاحقًا.

Angalia ukubwa wa karatasi na aina ya karatasi kwa vyanzo vya karatasi. Chagua **Imefanyika** kama mipangilio ni sahihi, au chagua ukubwa na aina sahihi ya karatasi. Unaweza kubadilisha mipangilio hii badaye.

اندازه کاغذ و نوع آن را برای منابع کاغذ بررسی کنید. اگر تنظیمات صحیح هستند روی انجام شد انتخاب، یا اندازه و نوع کاغذ صحیح را انتخاب کنید. می توانید بعداً این تنظیمات را تغییر دهید.

## 2 Windows



Įdékite CD ir pasirinkite A. Jei turite prijungti kelis kompiuterius kaip administratorius, pasirinkite B ir žr. *Administratoriaus vadovą*, kur rasite informacijos apie administratoriaus nuostatų nustatymus.

Sisestage CD-plaat ja seejärel valige A. Kui teil on vaja ühendada mitu arvutit administraatorina, valige B ja vaadake juhendist *Administraatori juhendist*, kuidas alghäältestada administraatori sätteid.

أدخل القرص المضغوط، ثم حدد A. إذا اضطررت الحاجة لتوصيل عدة أجهزة كمبيوتر كمسؤول، فحدد B وراجع دليل المسؤول لضبط إعدادات المسؤول.

Ingiza CD na kisha uchagua A. Ikiwa unahitaji kuungansihia kompyuta kadhaa kama msimamizi, chagua B na uangalie *Mwongozo wa Msimamizi* ili uweke mipangilio ya msimamizi.

CD را وارد کنید و سپس A را انتخاب کنید. اگر لازم است چند کامپیوتر را به عنوان سرپرست وصل کنید، B را انتخاب کنید و برای انجام تنظیمات سرپرست به راهنمای سرپرست مراجعه کنید.

**Jei parodomas užkardos įspėjimas, suteikite prieigą Epson programoms. Tulemüüri hoiatuste ilmunisel lubage juurdepääs Epsoni rakendustele.**

إذا ظهر تنبيه جدار الحماية، فاسمح لتطبيقات Epson بالوصول.

**Iwapo tahadhari ya Ngome huonekana, ruhusu ufikiaji kwa programu za Epson.**

اگر اخطار دیوار آتش نمایان شد، به برنامه‌های Epson اجازه دسترسی دهید.

## No CD/DVD drive Mac OS



Norédami pradėti sąranką, įdiegti programinę įrangą ir sukongifūruoti tinklo nustatymus, apsilankykite žiniatinklio svetainėje.


Seadistusprotsessi alustamiseks, tarkvara installimiseks ja võrguseadistuste konfigureerimiseks minge veebisaidile.

قم بزيارة موقع الويب لبدء عملية الإعداد وتثبيت البرنامج وتكوين إعدادات الشبكة.

Tembelea tovuti ili kuanza mchakato wa usanidi, sakinisha programu na usanidi mipangilio ya mtandao.

برای شروع فرایند راه‌اندازی، نصب نرم‌افزار و پیکربندی تنظیمات شبکه، از وب سایت بازدید نمایید.

## iOS/Android



Daugiau *informacijos* apie spausdinimą iš išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ieškokite *Vartotojo vadove*.

Vaadake juhendist *Kasutusjuhendist* lisateavet, kuidas printida nutitefonist või tahvelarvutist.

يرجى الاطلاع على دليل المستخدم للحصول على مزيد من المعلومات حول الطباعة من هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر لوجي.

Angalia *Mwongozo wa Mtumiaji* kwa maelezo zaidi kuhusu kuchapisha kutoka kwenye simumahiri au kijilaptopu.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چاپ از تلفن هوشمند یا تبلت به راهنمای کاربر مراجعه کنید.

## Epson Connect



Naudodamiesi mobiliuoju telefonu, galite spausdinti iš bet kurios pasaulio vietos savo „Epson Connect“ funkciją palaikančiu spausdintuvu. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite žiniatinklio svetainėje.

Oma mobiilseadet kasutades saate printida kõikjal maailmast oma Epson Connectiga sobiva printeriga. Lisateabe saamiseks minge veebilehele.

با استفاده از تلفن همراه خود می‌توانید از هر مکانی در سراسر دنیا با چاپگر سازگار با Epson Connect خود اقدام به چاپ کردن نمایید. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت بازدید کنید.

Kutumia kifaa chako cha mkononi, unaweza kuchapisha kutoka katika mahali popote ulimwenguni kwenye kichapishaji patanifu cha Epson Connect. Tembelea tovuti kwa maelezo zaidi.

با استفاده از تلفن همراه خود می‌توانید از هر مکانی در سراسر دنیا با چاپگر سازگار با Epson Connect خود اقدام به چاپ کردن نمایید. برای اطلاعات بیشتر از وب سایت بازدید کنید.

## Questions?

Vadovus PDF formatu galima atidaryti spustelėjus sparčiojo paleidimo piktogramą arba atsisiuntus naujausias versijas iš toliau nurodytos interneto svetainės.  
 Žr. *Vartotojo vadovas*, kur paaiškinta kaip įdiegti PS / PCL tvarkyklę.

PDF-formaadis juhendeid saate avada otsetee ikooniga või laadige viimased versioonid alla järgmiselt veebisaidilt.

Vt *Kasutusjuhendist*, kuidas installida PS/PCL-draiverit.

يمكنك فتح أداة الاستخدام بتنسيق PDF من رمز الاختصار أو تنزيل أحدث إصدارات من موقع الويب التالي.

انظر دليل المستخدم لتثبيت برنامج التشغيل PS/PCL.

Unaweza kufungua mwongozo wa PDF kutoka kwenye ikoni ya njiamkato, au upakue matoleo mapya kutoka kwenye tovuti inayofuata.

Angalia *Mwongozo wa Mtumiaji* ili usakinishe kiendeshi cha PS/PCL.

می‌توانید دفترچه راهنمای PDF را از طریق نماد میانبر باز کنید یا جدیدترین نسخه را از وب سایت زیر دانلود کنید.

برای نصب درایور PS/PCL به دفترچه راهنمای کاربر مراجعه کنید.

➔ <http://www.epson.eu/Support> (Europe)  
<http://support.epson.net> (outside Europe)

Windows® is a registered trademark of the Microsoft Corporation.  
 Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.  
 Android™ is a trademark of Google Inc.

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

для пользователей из России Срок службы: 3 года

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION  
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan  
 Tel: 81-266-52-3131  
 Web: <http://www.epson.com/>

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

